

شاہ ولی اللہ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تفسیروں کا تقابلی مطالعہ

ڈاکٹر محمد سعید عالم قاسمی

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی م ۱۷۶۲ء مطابق ۱۱۷۶ھ اور مولانا ابوالکلام آزاد م ۱۹۵۵ء دونوں کا شمار ہندوستان کے ممتاز علماء اور صاحب طرز مصنفوں میں ہوتا ہے۔ ان دونوں حضرات نے علم و فن کے بہت سے موضوعات کو اپنے قلم سے آراستہ کیا ہے اور اپنی تحقیقات و توجیہات اور طرزِ آزاد کا نقش مرسم کیا ہے۔ دونوں حضرات نے فہم قرآن کو اپنی خصوصی دلچسپی اور مخصوص شغف کا موضوع قرار دیا۔ شاہ ولی اللہ کو مولانا آزاد پر زامانی تقدم ہی حاصل نہیں ہے بلکہ بہت سی علمی بافتیا اور فکری نکات میں شاہ صاحب کو مولانا آزاد کا پیش رو اور رہنما ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ مولانا آزاد نے اس بات کا فرارخ دلانہ اعتراف بھی کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی تصانیف اور احوال و آثار کا گہرائی سے مطالعہ کیا تھا اور ان کی شخصیت اور کارناموں کا اثر قبول کیا تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے اپنی تحریروں میں جا بجا کیا ہے۔ مثلاً شاہ صاحب کی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے:

”بایں ہمہ معلوم ہے کہ وہ جو دورِ آخر کے فاتح اور سلطانِ عصر ہونے کا مقام تھا اور قطبِ وقت وہ صرف حجتہ الاسلام شاہ ولی اللہ ہی کے لیے تھا اور لوگ بھی بے کار تہہ ہے، کام کرتے رہے مگر جو کام یہاں انجام پایا وہ صرف انہیں کے لیے تھا۔“

اسی طرح شاہ صاحب کی تصانیف کی قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”ائمہ متاخرین میں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ و الصحابہ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف و تعقیبات اس باب میں نہایت محققانہ و الفع و ارفع ہوتی ہیں۔ حجۃ اللہ الباقیہ میں گواہی دیا جاوے گا (ولکن ابلغ من التصریح) سے کام لیتے ہیں لیکن تفہیمات الہیہ اور غیر کثیر اور البیور البازغہ میں بالکل پردہ اٹھا دیا ہے۔“

مولانا ابوالکلام آزاد پر حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیفات و افکار کا، بالخصوص ان کے قرآنی فکر اور تحریکِ فہمِ قرآن کا جو اثر تھا، اس نے مولانا آزاد کے قرآنی ذوق کو تابندہ کیا۔ شاہ صاحب نے جس طرح امت مسلمہ کو فہمِ قرآن کی دعوت دی اور قرآن کو دستوریات بنانے پر زور دیا ٹھیک اسی طرح مولانا آزاد نے بھی از سر نو امت مسلمہ کو قرآنِ فہمی کی دعوت دی اور قرآن کو اصلاح و انقلابِ احوال کا ذریعہ بنانے پر آمادہ کیا۔ گویا یہ تحریک ان کو شاہ صاحب سے ملی چنانچہ مولانا آزاد نے اخبار البلاغ ۲۶ نومبر ۱۹۱۵ء کے سرورق پر ترجمان القرآن کا جو اشتہار دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ:

”شاہ ولی اللہ نے دو سو برس پہلے فارسی ترجمہ کیا پھر شاہ رفیع الدین اور شاہ علامہ عبد القادر نے اردو ترجمے کیے اب اس بنیاد کی تکمیل کا شرف خدا نے ایڈیٹر الہلال کو دیا ہے ہر ترجمان القرآن اردو بھلا اللہ لیتھو میں زیر طبع ہے۔“

شاہ ولی اللہ نے اصولِ تفسیر پر ایک مختصر مگر جامع کتاب الفوز البکیر فی اصول التفسیر لکھی نیز قرآن کریم کا سلیس و محاورہ فارسی زبان میں ترجمہ کیا جس کا نام اصول نے فتح الرحمن رکھا۔ شاہ صاحب نے قرآن سے عوام کا ذوق اور تعلق پیدا کرنے کے لیے صرف ترجمہ کو کافی سمجھا، البتہ کہیں کہیں مختصر حواشی لکھے۔ طویل اور مفصل تشریح سے گریز کیا۔ تاکہ لوگوں کو اپنی تفسیر و تشریح کا اسیر بنانے کے بجائے خود کلام اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

”یہ زمانہ جس میں ہم موجود ہیں اور یہ ملک جس کے ہم باشندے

میں اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی تقاضا کرتی ہے کہ روزمرہ کی متداول اور سلیس فارسی زبان میں اظہارِ فضیلت اور عبارت آرائی، مختلف قصوں اور توجیہات کا تذکرہ کیے بغیر قرآن عظیم کا ترجمہ کیا جائے تاکہ عوام و خواص یکساں طور پر سمجھ سکیں اور چھوٹے بڑے سبھی معانی قرآن کا ادراک کر سکیں، اس لیے اس اہم کام کا داعیہ فقیر کے دل میں ڈالا گیا اور اس کے لیے مجبور کیا گیا۔

تقریباً یہی بیج مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اختیار کیا انھوں نے قرآن کے ترجمہ کے ساتھ کہیں کہیں ضروری اشارات منبسط قلم کیے۔ مگر شاہ ولی اللہ کی طرح وہ اس طریقہ کار کے پابند نہ رہ سکے اور جوں جوں آگے بڑھتے گئے ان کا قلبی انشراح بڑھتا گیا، خیالات امنڈتے گئے اور قلم زور پکڑتا چلا گیا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دیگر ابتدائی سورتوں میں تو انھوں نے مختصر حواشی اور نوٹس پر اکتفا کیا مگر بعد کی سورتوں مثلاً سورہ ہود، یوسف، النمل، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طہ، انبیاء وغیرہ میں انھوں نے مفصل تفسیری کلام کیا۔ مولانا آزاد نے یوں تو ایک ساتھ مقدمہ تفسیر، ترجمان القرآن اور تفسیر البیان تینوں کا ارادہ اور اعلان کیا جیسا کہ وہ لکھتے ہیں:

”۱۹۱۵ء میں جب میں نے اس کام کا ارادہ کیا تو بیک

وقت تین چیزیں پیش نظر تھیں ترجمہ، تفسیر اور مقدمہ تفسیر۔ میں نے خیال کیا تھا کہ یہ تین کتابیں قرآن کے فہم و مطالعہ کی تین مختلف ضرورتیں پوری کر دیں گی، عام تعلیم کے لیے ترجمہ، مطالعہ کے لیے تفسیر اور علم و نظر کے لیے مقدمہ۔“

مگر وہ ترجمان القرآن ہی اردو دنیا کو دے سکے وہ بھی زمانہ کی چیرہ دستی کے باعث صرف اٹھارہ پاروں تک ہی شائع ہو سکی۔ ترجمان القرآن میں ترجمہ کے علاوہ جا بجا حواشی ہیں اور سورتوں کے آخر میں مفصل نوٹس موجود ہیں۔ مگر ان سب میں اصل توجہ ترجمہ پر دی گئی ہے اور یہ ترجمہ بھی ترجمہ نہیں بلکہ آزاد ترجمانی ہے مولانا آزاد اس کی بابت لکھتے ہیں:

”ترجمان القرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے

کہ اس کی تمام خصوصیات کا اصل محل اس کا ترجمہ اور ترجمہ کا اسلوب ہے، اگر اس پر نظر رہے گی تو پوری کتاب پر نظر رہے گی، وہ اوجھل ہوگی تو پوری کتاب اوجھل ہوگی۔

قرآن کے مطالب و مقاصد کے اصول و معارف کے جس قدر احوال و مبادیات از سر نو مدون کیے گئے ہیں وہ سب کے سب اسی محل میں ڈھونڈے جاسکتے ہیں اور یہی خزینہ ہے جس میں کتاب کی خصوصیات مدفون ہیں۔

شاہ ولی اللہ اور مولانا ابوالکلام آزاد کے تفسیری خیالات میں اخذ و استفادہ ہم آہنگی، اختلاف، تنقید اور امتیاز کے کئی پہلو ہیں۔ کہیں شاہ صاحب کے خیالات سے مولانا آزاد استفادہ کرتے ہیں، کہیں اختلاف کرتے ہیں اور کہیں تنقید کرنے سے بھی نہیں جوتے۔ یہاں استفادہ، مماثلت، اختلاف اور تنقید و امتیاز کے بعض پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی۔

قرآن فہمی میں الجھاؤ کے اسباب

شاہ ولی اللہ نے الفوز البکیر کے دوسرے باب میں نظم قرآن کے غمی ہوجانے کے وجوہ اور ان کے علاج کے بارے میں بحث کی ہے، شاہ صاحب کا خیال ہے کہ نزول قرآن کے وقت قرآن کا سمجھنا بالکل آسان تھا کیوں کہ قرآن عربوں کی مادہ زبان اور اسلوب کے مطابق ہی نازل ہوتا تھا، مگر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اس پر حجاب پڑتا گیا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ:

”قرآن مجید ٹھیک ٹھیک بلا کسی تفاوت کے محاورہ عرب کے موافق نازل ہوا اور اہل عرب اپنی زبان کے سمجھنے میں جو سلیقہ رکھتے تھے اس سے قرآن مجید کے معنی منطوق کو سمجھ لیتے تھے.... صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سوالات کم پیش کرتے تھے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہی سوالات منقول ہیں لیکن جب اس طبقہ کا دور گزر چکا، علوم تفسیر میں عجمیوں نے دخل دینا

شروع کیا اور وہ پہلی زبان بھی متروک ہو گئی تو اس وقت بعض مقامات پر شائع کی مراد سمجھنے میں دشواری پیدا ہوئی اور ضرورت پڑی کہ لغت اور علمِ نحو کی چھان بین کی جائے تو سوالات و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور تفسیر کی کتابیں لکھی جانے لگیں۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے اس خیال کو اپنے مقدمہ ترجمان القرآن میں جسے مقدمہ تفسیر سمجھنا چاہیے، مرکزی حیثیت دی ہے اور اپنے مخصوص سیرایہ بیان اور زورِ کلام سے قوت اور نئی جہت عطا کی ہے۔ نیز اسے مفسرین کے زوالِ فکر اور کوتاہ بینی کا آئینہ بنا دیا ہے۔

مولانا لکھتے ہیں:

”قرآن جب نازل ہوا تو اس کے مخاطبوں کا پہلا گروہ بھی ایسا ہی تھا، تمدن کے وضعی اور صناعتی سانچوں میں ابھی اس کا دماغ نہیں ڈھلا تھا، فطرت کی سیدھی سادی فکری حالت پر قانع تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن اپنی شکل و معنی میں جیسا کہ واقع ہوا تھا، بھٹیک ویسا ہی اس کے دلوں میں اتر گیا اور اسے قرآن کے فہم و معرفت میں کسی طرح کی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ صحابہ کرام پہلی مرتبہ قرآن کی کوئی آیت یا سورت سنتے تھے اور سنتے ہی اس کی حقیقت پالیتے تھے۔“

لیکن صدرِ اول کا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ روم و ایران کے تمدن کی ہوائیں چلنے لگیں اور پھر یونانی علوم کے تراجم نے علوم و فنون و صنایع کا دور شروع کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ جوں جوں وضاحت کا ذوق بڑھتا گیا قرآن کے فطری اسلوبوں سے طبعیتیں نا آشنا ہوتی چلی گئیں، رفتہ رفتہ وہ وقت آ گیا کہ قرآن کی ہر بات و معنی اور صناعتی طریقوں کے سانچے میں ڈھالی جانے لگی۔“

مولانا آزاد نے دوسری جگہ لکھا ہے:

”قرآن کے صحتِ فہم کے لیے عربی لغت و ادب کا صحیح ذوق شرطِ اول ہے لیکن مختلف اسباب سے جن کی تشریح محتاجِ تفصیل

ہے یہ ذوق کم پڑتا گیا۔ یہاں تک کہ وہ وقت آگیا جب مطلب میں بے شمار الجھاؤ محض اس لیے پڑ گئے کہ عربیت کا ذوق سلیم باقی نہیں رہا اور جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا اس کے محاورات و مدلولات سے یک قلم بُد ہو گیا“ ۹۹

وَضْعِي اصطلاحات

قرآن کریم اور اس کے علوم و معارف کو سمجھنے کے لیے بعد کے علماء اور مفسرین نے اصطلاحیں وضع کیں، وہ اصطلاحات قرآن کی پابند ہیں نہ کہ قرآن ان اصطلاحات کا پابند ہے، اس نکتہ کو بھول جانے کی وجہ سے مفسرین سے بڑی لغزشیں ہوئی ہیں، شاہ صاحب لکھتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ آدمیوں سے ہم کلام ہو تو اس نے صرف اس اصل بسیط کو اپنے کلام میں منضبط فرمایا نہ کہ ان قوانین کو جو زمانہ اور مذاق کے بدل جانے پر ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ درحقیقت اصطلاحی قوانین کی پابندی عجز اور جہل کی دلیل ہے“ ۱۰۰

مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اس خیال سے اتفاق کیا ہے اور نہ صرف اتفاق کیا ہے بلکہ اسے قرآن فہمی کے اولین اصولوں میں قرار دیا ہے، جس کو ذہن نشین کرنا قرآن کے طالب علم کے لیے از حد ضروری ہے مولانا لکھتے ہیں:

”نزول قرآن کا موضوع فلسفہ یونانی نہیں ہے اور نہ نزول قرآن کے وقت عربی زبان ان مصطلحات سے آشنا ہوئی تھی، پس جہاں کہیں قرآن میں وہ الفاظ آئے ہیں ان کے معانی وہ نہیں ہو سکتے جو وضع مصطلحات کے بعد قرار پائے، لیکن اب ان کے وہی مفہوم لیے جانے لگے اور اس کی بنا پر طرح طرح کی دوراز کار بحثیں پیدا کر دی گئیں“ ۱۰۱

قرآن کی فصاحت و بلاغت

قرآن کی فصاحت و بلاغت ایک عظیم لسانی و ادبی شاہکار ہے اس کو سمجھنے

کے لیے علم معانی و بیان کی رہنمائی کام آتی ہے ہنگر یاد رہے کہ ہر فن کے اپنے وضعی ضابطے ہوتے ہیں ان سے تفہیم قرآن میں مدد تو لی جاسکتی ہے مگر قرآن کو اس سانچے میں ڈھالا نہیں جاسکتا۔ شاہ ولی اللہ اس نکتہ کو یوں واضح کرتے ہیں۔

”علم معانی و بیان ایک ایسا علم ہے جو کہ حضرات صحابہؓ و تابعینؓ کے زمانہ کے بعد پیدا ہوا ہے اس وجہ سے اس کے جو مسائل جنہوں نے عرب کے عرف کے مطابق سمجھ میں آئیں وہ سر آنکھوں پر اور جو ایسے دقیق امور ہوں کہ ان فنون میں گہری معلومات رکھنے والے کے سوا کسی اور کی سمجھ میں نہیں آتے تو ہمیں تسلیم نہیں کہ وہ کلام اللہ میں بھی مطلوب ہیں“۔ ۱۶۵

مولانا آزاد فہم قرآن کے اسی اصول کو اپنے مخصوص لب و لہجہ میں یوں بیان فرماتے ہیں:

”قرآن کی بلاغت کا مسئلہ ہمارے وجدان کے لیے اس قدر سہل مگر ہمارے دماغ کے لیے اس قدر دشوار کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اسی لیے کہ وضعیت کا خود ساختہ ترازو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم چاہتے ہیں اسی سے قرآن کی بلاغت بھی وزن کریں“۔ ۱۶۵

اسلوب قرآن

عام کتابوں سے ہٹ کر قرآن کریم کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہے، اس اسلوب کو فراموش کرنے کی وجہ سے قرآن فہمی کا معاملہ الجھ جاتا ہے۔ یہ اسلوب کیا ہے؟ شاہ صاحب اور مولانا آزاد دونوں اس پر کھل کر گفتگو کرتے ہیں، شاہ صاحب کا فکری اثر مولانا آزاد کے یہاں بھی ملتا ہے، شاہ صاحب لکھتے ہیں:

”قرآن مجید میں ان علوم کا بیان قدیم عربوں کی روش پر ہوا ہے، متاخرین کا اسلوب اختیار نہیں کیا گیا، آیت احکام میں متن نو لیسوں کی طرح اختصار اور اصولیوں کی طرح غیر ضروری قید کی تفتیح کا التزام نہیں کیا گیا۔ علم مباحثہ کی آیات میں مشہور و مسلم اقوال اور نفع بخش خطاب کا التزام کیا گیا ہے۔ دلائل کی ترتیب میں

منطقیوں کے اسلوب کی پیروی اور ایک مضمون کے بعد دوسرے مضمون کے شروع کرنے میں ادباً متاخرین کی طرح مناسبت کی

پیروی نہیں کی گئی۔

ایک دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں:

”اس کو (محکم کو) سمجھنے میں اعتبار پہلے عربوں کا ہے نہ کہ ہمارے

زمانے کے بال کی کھال نکالنے والوں کا، جن کی موٹنگانی ایسا ہی سخت ترین مرض ہے کہ جس کے ذریعہ سے وہ محکم کو مجھوں لادیتے ہیں“

یہی رنگ و آہنگ مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں بھی ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”قرآن کا استدلال کیوں نمایاں نہیں ہوتا؛ اس کے تمام رد لائل

و براہین حقیقیں وہ حجتہ بالنہ سے تعبیر کرتا ہے، کیوں مستور ہو گئے ہیں؟

لیے کہ وضعیت کے استغراق نے منطق کا ساچہ ہمیں دے دیا ہے ہم

چاہتے ہیں کہ قرآن کے دلائل و براہین بھی اسی میں ڈھالیں۔“

ایک دوسری جگہ رقم طراز ہیں:

”ہمارے مفسروں کو فلسفہ و منطق کے انہماک نے اس قابل

ہی نہ رکھا کہ کسی حقیقت کو اس کی سیدھی سادی شکل میں دیکھیں

اور قبول کریں، انہوں نے انبیاء کرام کے لیے بڑی فضیلت اس

میں سمجھی کہ انہیں منطقی بنا دیں اور قرآن کی ساری عظمت اس میں

نظر آئی کہ اس کی ہر بات ارسطو کی منطق کے ساچہ میں ڈھلی ہوئی نکالے

تفسیر سلف کا اعتبار

اصول تفسیر میں ایک بنیادی مسئلہ متقدمین اور متاخرین مفسروں کے سنج تفسیر میں

بعد اور فاصلہ کا ہے، ایسے مواقع پر یقیناً صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے طریقہ کو

اہمیت اور ترجیح حاصل ہوگی۔ اس نکتہ کو شاہ ولی اللہ نے یوں واضح کیا ہے۔

”حضرات صحابہ اور تابعین کبھی لفظ کی تفسیر اس کے معنی لازمی

سے کرتے ہیں اور متاخرین لغات کے تتبع اور مواقع استعمال کے

تفصص کی بنا پر اس قدیم تفسیر میں شبہات کرتے ہیں۔ اس رسالہ میں ہماری غرض صرف تفسیر سلف کا کامل اتباع ہے۔ مثلاً

ایک دوسری جگہ اس بات کی مزید وضاحت اس طرح کرتے ہیں:

”لغت قرآنی کو عرب اول کے استعمال کے مطابق لینا چاہیے اور صحابہ و تابعین کے آثار پر پورا اعتماد کرنا چاہیے“^{۱۹}

مولانا ابوالکلام آزاد اصول تفسیر کے اس کلیہ سے نہ صرف استفادہ کرتے ہیں، بلکہ اس کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو سلف کی صریح تفسیر کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ:

”اس بات کا اندازہ کرنے کے لیے قرآن کا کوئی ایک مقام لے لو، پہلے اس کی تفسیر صحابہ و تابعین کی روایات میں ڈھونڈو، پھر بعد کے مفسروں کی طرف رخ کرو اور دونوں کا مقابلہ کرو، صاف نظر آجائے گا کہ صحابہ و سلف کی تفسیر میں معاملہ بالکل واضح تھا، بعد کی بے محل دقیقہ منجیوں نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا اور الجھاؤ پیدا ہو گئے۔“^{۲۰}

ترجمہ میں یکسانیت

شاہ ولی اللہ کا ترجمہ فتح الرحمن اور مولانا آزاد کا ترجمان القرآن دونوں کا عالم اور مقابلہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہ دونوں تراجم میں ہم آہنگی موجود ہے، دوسرے لفظوں میں مولانا آزاد کا ترجمہ شاہ صاحب کے ترجمہ پر مبنی ہے مثلاً۔

سورہ البقرہ کی آیت ہے وَإِذْ أَنْوَىٰ نَسْعَىٰ فِي الْأَنْهَابِ يُعْرِضُ فِيهَا وَيَهْلِكُ الْخَرْدَتَ وَالنَّسْلَ (البقرہ: ۲۵)

مولانا آزاد نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ”جب انھیں حکومت مل جاتی ہے تو ان کی تمام سرگرمیاں ملک میں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ خرابی پھیلانے اور انسان کی زراعت اور محنت کے نتیجوں کو اور اس کی نسل کو ہلاک کریں۔“^{۲۱}

یہاں ”تولیٰ“ کا ترجمہ حکومت کیا گیا ہے، جب کہ عام طور پر مفسرین نے واپس جانے اور پھرنے کے معنی مراد لیے ہیں۔ مولانا آزاد کا یہ ترجمہ نہایت معنی خیز ہے اور

منشا کلام کو بلند کر دیتا ہے۔ اس ترجمہ میں مولانا آزاد کے پیش رو شاہ ولی اللہ ہیں جنہوں نے اس معنویت کو تلاش کیا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے :

”جو ریاست پیدا کند بشتابد در زمین تا تباہی کند در آں و نابود سازد

زراعت و مواشی را“ ۱۲۷

اسی طرح سورۃ الانعام میں اسی لفظ مشتعل ایک دوسری آیت ہے۔

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ لِبَعْضِ النَّاسِ لِمِثْلِكَ لِبَعْضٍ لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (انعام: ۱۳۰)

مولانا آزاد نے ترجمہ کیا ہے ”اور دیکھو ہم اس طرح بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں ان کی اس کمائی کی وجہ سے جو وہ اپنی بد اعمالیوں سے حاصل کرتے ہیں“ ۱۲۸ مفسرین کا عام رجحان یہ ہے کہ یہ اشارہ قیامت کی طرف ہے جبکہ مولانا آزاد نے دنیا میں ظالموں کے لیے مکافاتِ عمل کا ایک ضابطہ قرار دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا بھی رجحان اسی طرف ہے۔ چنانچہ ان کا ترجمہ ہے :

”وہم چنین مسلط کی کہیم بعض ستم کاراں را بر بعض بشارت آچہ می کند“ ۱۲۹

سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلٰیٰ نَفْسِہٖ فَاَنْتُمْ رٰجِعُوْنَ (بنی اسرائیل: ۸۳)

شاکلہ کا مطلب عام طور پر مفسرین نے فطرت و جبلت بیان کیا ہے جو سیاق و سباق سے زیادہ ہم آہنگ نہیں معلوم ہوتا۔ مولانا آزاد نے اس کا ترجمہ کیا ہے ”کہہ دو ہر انسان اپنے طور طریقہ کے مطابق عمل کرتا ہے“ ۱۳۰

مولانا آزاد کا ترجمہ لغت اور زبان کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے اس سلسلہ میں مولانا آزاد کے پیش رو شاہ ولی اللہ میں جنہوں نے شاکلہ کا ترجمہ جبلت کے بجائے ”روش“ یعنی طور طریقہ کیا ہے :

”گو ہر کس عمل می کند بر روش خود“ ۱۳۱

اسی طرح سورہ المؤمنون میں ہے ثُمَّ النَّشَانِ مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنَا الْاٰخِرِیْنَ

(المؤمنون: ۳۱)

عام طور پر مترجمین نے ”قرنا“ کا ترجمہ ”اقوام“ کیا ہے۔ مگر قرن اور قوم میں جو فرق ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔ شاہ صاحب نے قرن کا ترجمہ قرن ہی کیا ہے۔

”باز یافردیم بعد الاشاں قرنے دیگر را“ ۱۳۲

مولانا آزاد نے اسی حکمت کو کپڑا ہے اور ترجمہ اس طرح کیا ہے ”بھرم تے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا دور پیدا کر دیا“ ۱۲۸

تفسیر میں یکسانیت

ترجمہ کے علاوہ آیات کی تفسیر اور تشریح حواشی میں بھی ہم آہنگی یا افتدوا استفادہ کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ نمونہ کے بعض مقامات ملاحظہ ہوں۔

نیکوں میں سے تعاون کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجِدُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَسْمَاءَ الْكُفَّارِ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ-۲۰) مفسرین نے عام طور پر اس آیت کو منسوخ مانا ہے کیوں کہ اس میں حرمت کے مہینوں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں جنگ کی ممانعت ہے، بعد میں اباحت نازل ہوئی۔ شاہ صاحب نے مفسرین کے اس خیال سے اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ:

”یہ آیت آخری عہد کی آیات میں سے ہے اس لیے اس کو منسوخ سمجھنا جیسا کہ مفسرین سمجھتے ہیں درست نہیں“ ۱۲۹

شاہ صاحب نے اس کی مزید وضاحت التفوزا لکیر میں کی ہے جہاں انھوں نے نسخ و منسوخ کی بحث کی ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے اس سلسلہ میں شاہ صاحب کا موقف اختیار کیا۔ بلکہ نسخ آیات کے سلسلہ میں انھوں نے شاہ ولی اللہ ہی پر اعتماد کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

»کتاب و سنت کی منسوخات بہت قلیل اور گنی ہوئی ہیں۔

قرآن کی منسوخ آیتیں (مصطلح متاخرین) گھٹتے گھٹتے اتقان میں بیس تک پہنچیں اور فوزا لکیر میں پانچ تک، ۱۳۰

مولانا آزاد نے نہ صرف اس آیت کو محکم تسلیم کیا ہے بلکہ اس سے قاعدہ کلیہ بھی برآمد کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

»اس آیت میں جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کے تمام کاموں کے لیے ایک عام دستور العمل ہے، جو کوئی نیک کام کرے اس کی مدد

کرو اگرچہ مسلمان نہ ہو، اور اگرچہ مخالف ہو، جو کوئی برائی کرے اس کی مدد نہ کرو، اگرچہ مسلمان ہو اور اگرچہ تمہارا ساتھی ہو۔“ ۳۲

اعتبارِ ایمان و عمل کا

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (البقرہ: ۶۲)

شاہ صاحب اس آیت کی تشریح کرتے ہیں:

”آیت کے معنی کا حاصل یہ ہے کہ آدمی جس فرقہ کا بھی ہو جب ایمان لائے گا تو اہل نجات ہوگا، خصوصیتِ فرقہ کا اعتبار نہیں۔^{۳۳} مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی تشریح کی ہے۔

”اس اصلِ عظیم کا اعلان کس سعادت و نجاتِ ایمان و عمل سے وابستہ ہے، نسل و خاندان یا مذہبی گروہ بندی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔“ ۳۴

دین میں جبر نہیں

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ النُّسُخُ مِنَ الْقَوَىٰ (البقرہ: ۲۵۶)

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ”حجتِ اسلام ظاہر ہو چکی۔ پس گویا جبر نہیں کیا جائے گا اگرچہ فی الجملہ جبر ہوگا“ ۳۵

شاہ صاحب نے ”فی الجملہ جبر باشد“ کا اضافہ اس لیے کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ امر بالمعروف کے لیے جبر نہیں ہے مگر عن المنکر کے لیے جبر تو ممکن ہے، مولانا آزاد نے اپنے خاص اسلوب میں اس کو یوں بیان کیا ہے۔

”اس اصلِ عظیم کا اعلان کہ دین و اعتقاد کے معاملہ میں کسی طرح

کا جبر و استکراہ جائز نہیں۔ احکامِ جہاد کے بعد ہی یہ ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ جنگ کی اجازت ظلم و تشدد کے انسداد کے

لیے دی گئی ہے نہ کہ دین کی اشاعت کے لیے۔“ ۳۶

مولانا آزاد نے مذہبی آزادی پر تفصیلی بحث سورہ یونس کی آیت نمبر ۱۰۸ و ما

اَنَا عَلَيْكُمْ لِيُكَيَّلَ كِي تَشْرَحَ فِي مِي كِي هِي يِي بَحْتِ بِلَا شَبَهٍ بِصِيْرَتِ افْرُوزِ اَوْرِ لَالِقِ اسْتِفَادَهٗ
تذکیر بایام اللہ

شاہ ولی اللہ نے الفوز البکیر میں قرآن کریم کے بیان کردہ مرتب علوم کو پانچ
عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے، ان میں چوتھی قسم علم تذکیر بایام اللہ ہے، گوشہ
انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کو جو قرآن میں وارد ہوئے ”ایام اللہ“ کے تحت بیان
کیا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ اصطلاح قرآن کی بات وَذَكَرَهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ (ابراہیم: ۵)
سے اخذ کی ہے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے کہ:

”ایام اللہ یعنی وہ واقعات جن کو اللہ تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے مثلاً
فرماں برداروں کے لیے انعام اور نافرمانوں کے لیے عذاب، ان میں
سے ایسی جزئیات کو اختیار فرمایا کہ جو پیشتر سے ان کے کان میں پڑ چکی
تھیں اور وہ اجالی طریقہ سے ان کا ذکر سن چکے تھے مثلاً قوم نوح و
عاد و ثمود کے قصے جن کو عرب اپنے باپ دادا سے مسلسل سنتے آئے
اور حضرت ابراہیم اور انبیاء ذنبی اسرائیل کی مختلف داستانیں جن سے
یہود اور عرب کے زمانہ دراز کے اختلاط کے باعث ان کے کان
آشنا تھے“ ۳۷

مولانا آزاد نے ترجمان القرآن میں اہم سابقہ اور انبیاء سابقین کے تذکرہ
کے موقع پر یہی اصطلاح استعمال کی ہے اور اسے شاہ صاحب کی طرح بطور اصول
اور کلیہ کے پیش کیا ہے لکھتے ہیں:

”عربی میں ایسے واقعات کو جو طے اہم اور فیصلہ کن ہوتے
ہیں اور قومی روایت کی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں یوں تعبیر کیا جاتا
ہے کہ فلاں واقعہ کا دن مثلاً یوم بدر، یوم احد، یوم قادسیہ اور اسی
سے قومی معرکوں کے ایام کی تعبیر پیدا ہو گئی ہے، چونکہ فیصلہ نتائج
کے یہ دن جو تمام قوموں کو پیش آئے اللہ کے قانون حق کے نفاذ
کے دن تھے اور حق و باطل کی معرکہ آرائی تھی اس لیے قرآن نے
انھیں ایام اللہ سے تعبیر کیا ہے“ ۳۸

امتِ واحدہ

اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا
 اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْا (الانبیاء: ۹۲) یہ تمہاری
 امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری ہی عبادت کرو۔

شاہ ولی اللہ نے اس ضمن میں ایک کلیہ بیان کیا ہے ”یعنی اصل دین واحد
 است، اختلاف در فروع می باشد“ لکنہ اصل دین تو ایک ہے اور اختلاف فروع میں ہے۔
 مولانا آزاد نے اس کلیہ کو بڑے خوبصورت پیرایہ میں بیان کیا ہے اور اس
 آیت سے توحیدِ امت، توحیدِ ربوبیت اور توحیدِ عبادت کا استنباط کیا ہے مولانا
 لکھتے ہیں :-

”آیت اس تمام تذکرہ کا خلاصہ ہے جو انبیاء کرام کا اوپر گزر چکا ہے
 یعنی اللہ کے یہ تمام رسول جو مختلف عہدوں اور قوموں میں ظاہر ہوئے
 ان سب کی دعوت کا ماحصل کیا تھا انہوں نے نسل انسانی کے مختلف
 عہدوں اور گروہوں کو کس بات کا پیغام پہنچایا، وہ بات ایک ہی
 تھی یا ایک سے زیادہ؟ یہ آیت اپنے اپنے نئے نلفظوں میں جواب
 دیتی ہے کہ ان سب کا پیام ایک ہی تھا اور وہ یہی تھا کہ تم سب
 ایک ہی امت ہو تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے پس
 الگ الگ نہ ہو، اسی کی بندگی کرو“۔

شرعیات کا اختلاف زمانے کو وجہ سے

شرعیات کے اختلاف سے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے: بِكُلِّ اُمَّةٍ
 جَعَلْنَا مَسْئَلًا لَهُمْ نَاسِكًا فَلاَ يُنَازِعُكَ فِيْ الْمَرْ... اللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
 يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِعُوْنَ ۝ (الحج: ۶۷-۶۹)
 شاہ صاحب نے ان آیات کی تشریح میں لکھا ہے کہ:

”آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شرعیات کا اختلاف
 زمانوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ ساری شرعیات حق ہیں اور اپنے
 زمانہ میں معمول بہا تھیں تو درحقیقت ان میں جھگڑا نہیں کرنا چاہئے“۔ لہذا

مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اس نکتہ کو ابھارا ہے وہ کہتے ہیں۔

”آیت میں اس اصلِ عظیم کی طرف اشارہ ہے کہ اصلِ دین ایک ہے البتہ مناسک یعنی عبادت کے طور طریقے میں اختلاف ہو سکیں کہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی جس کی جیسی حالت تھی اس کے مطابق ایک طور طریقہ دے دیا گیا پس طالبِ حق کو چاہیے کہ سب سے پہلے اصل کو دیکھے نہ یہ کہ فرع کے پیچھے پڑ جائے“۔ ۱۴۳

مِثَاقُ النَّبِيِّينَ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
تَمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَوْصُوفٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (آل عمران: ۸۱)

اس آیت کا ترجمہ مولانا آزاد نے اس طرح کیا ہے۔

”اور دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے نبیوں کے بارے میں (نبی اسرائیل سے) عہد لیا تھا کہ ہم نے تمہیں کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے، پھر اگر ایسا ہو کہ کوئی دوسرا رسول اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو تمہارے پاس آئے جو تمہارے ساتھ ہے تو ضروری ہے کہ تم اسے مانو اور اس کی تائید کرو“۔ ۱۴۴

حاشیہ میں مزید وضاحت کرتے ہیں کہ

”اس آیت میں مِثَاقُ النَّبِيِّينَ کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ نبیوں کے بارے میں مِثَاقُ دوسرا یہ کہ وہ مِثَاقُ جو نبیوں سے لیا گیا تھا، بعض مفسروں نے پہلا مطلب اختیار کیا ہے اور ان میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور بعضوں نے دوسرا، ہم نے پہلے کو ترجیح دی ہے“۔ ۱۴۵

وَحَدِيثِ دِينٍ

مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں متعدد مقامات پر وحدتِ دین پر گفتگو کی ہے، بالخصوص سورہ انفاتح کی تفسیر ”آھدنا“ میں انہوں نے اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ مولانا آزاد نے جس انداز سے مسئلہ اٹھایا ہے اس سے

اہل علم میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور مولانا آزاد کو وحدتِ ادیان کے مبلغین کی صف میں کھڑا کیا گیا ہے۔ مولانا کا موقف ان کے الفاظ میں یہ ہے :

”فطرتِ الہی کی راہ کائناتِ ہستی کے ہر گوشے میں ایک ہی ہے

وہ نہ تو ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے نہ باہم دگر مختلف۔ پس یہ ضروری

تھا کہ ہدایت بھی اول دن سے ایک ہی ہوتی اور ایک ہی طرح پر

تمام انسانوں کو مخاطب کرتی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے: خدا کے تجھے پیغمبر

پیدا ہوئے خواہ وہ کسی زمانے اور کسی گوشے میں ہوئے ہوں سب

کی راہ ایک ہی تھی اور سب خدا کے ایک ہی عالم گیر قانونِ سعادت

کی تعلیم دینے والے تھے۔ یہ عالم گیر قانونِ سعادت کیا ہے؟ ایمان

اور عملِ صالح کا قانون ہے یعنی ایک پروردگارِ عالم کی پرستش کرنی اور

نیک عملی کی زندگی بسر کرنی۔ اس کے علاوہ اور اس کے خلاف جو کچھ

بھی دین کے نام سے کہا جاتا ہے دین کی حقیقی تعلیم نہیں ہے،“ ۱۴

”دنیا میں کوئی بانی مذہب بھی ایسا نہیں ہوا ہے جس نے ایک

ہی دین پر کٹھے رہنے اور تفرقہ و اختلاف سے بچنے کی تعلیم نہ دی ہو،

سب کی تعلیم ہی تھی کہ خدا کا دین بچھڑے ہوئے انسانوں کو جمع کرنے

کے لیے ہے الگ الگ کرنے کے لیے نہیں ہے پس ایک پروردگار

عالم کی بندگی و نیاز مندی میں سب متحد ہو جاؤ،“ ۱۵

”وہ (قرآن) کہتا ہے مذاہب کی تعلیم دو قسم کی باتوں سے

مرتب ہے: ایک قسم تو وہ ہے جو ان کی روح و حقیقت ہے، دوسری

وہ ہے جن سے ان کی ظاہری شکل و صورت آراستہ کی گئی ہے پہلی

جیز اصل ہے، دوسری فرع ہے پہلی چیز کو وہ دین سے تعبیر کرتا ہے

دوسری کو شرع اور نسک سے اور اس کے لیے منہاج کا لفظ بھی

استعمال کیا گیا ہے، شرع اور منہاج کے معنی راہ کے ہیں اور نسک

سے مقصود عبادت کا طور طریقہ ہے پھر اصطلاح میں شرع قانون

مذہب کو کہنے لگے اور نسک عبادت کو۔ وہ (قرآن) کہتا ہے مذاہب

میں جس قدر بھی اختلاف ہے وہ دین کا اختلاف نہیں تو اہر کا ہے۔
 روح کا نہیں صورت کا ہے اور ضروری تھا کہ یہ اختلاف ظہور میں آتا۔
 مولانا آزاد کی یہ ساری بحث آسمانی مذاہب اور انبیاء کی شریعتوں کے پس منظر
 میں ہے نہ کہ مشرکانہ اور مہدانہ مذاہب کے تناظر میں۔ چنانچہ مذکورہ بحث میں انھوں نے
 جن آیات سے استدلال کیا ہے ان آیات کی تفسیر کے تحت اس پر مزید روشنی
 ڈالی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا آزاد نے وحدتِ دین کی وکالت کی ہے،
 نہ کہ وحدتِ ادیان کی۔ انھوں نے جن مقامات پر وحدتِ ادیان کی اصطلاح استعمال
 کی ہے اس سے ان کی مراد وحدتِ دین ہے، نہ کہ تمام مہدانہ اور مشرکانہ مذاہب
 کی وحدت چنانچہ آیت قرآنی ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ“ (انبیاء: ۲۵) کی تشریح کرتے ہوئے مولانا آزاد لکھتے ہیں:

”یہ استدلال وحدتِ ادیان کی اصل عظیم کا استدلال ہے جس پر
 قرآن نے اپنی دعوت کی تمام بنیادیں استوار کی ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تعلیم
 حق ہے جو میرے ساتھیوں کے پاس ہے اور اسی طرح وہ تمام تعلیمیں
 بھی موجود ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر اگر بغیر کسی اختلاف کے دنیا
 کے ہر عہد اور ہر گوشے کی دینی تعلیم ایک ہی رہی ہے اور سب نے
 توحید و خدا پرستی ہی کی طرف بلایا ہے تو کیا یہ عالم گیر وحدتِ تعلیم اور
 باہم دگر تصدیق و توثیق کی موجودگی کا ایک قطعی ثبوت نہیں ہے چنانچہ
 آیت ۲۵ میں وضاحت کر دی کہ دعوتِ قرآن سے پہلے جتنی دعوتیں بھی
 دنیا میں آچکی ہیں، ان سب کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں رہی ہے کہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ“ ۵۷

مولانا آزاد عام طور پر اپنی بحث کے مستدلانہ حوالہ نہیں دیتے اور اپنا
 ماتخذ نہیں بیان کرتے اس لیے مولانا آزاد کی اس پوری بحث کو وحدتِ ادیان
 کی وکالت سمجھ کر ناقابلِ اعتبار بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سلسلہ میں مولانا آزاد کے پیش رو
 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی شہرہ آفاق کتاب حجۃ اللہ الباقیہ
 میں ایک پورا باب اس مسئلہ پر وقف کیا ہے اور انہی آیات سے استدلال کیا ہے

جن کو مولانا آزاد نے پیش کیا ہے۔ شاہ صاحب کی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے۔
 ”اصل دین ایک ہے جس پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق ہے،
 اختلاف تو شرائع اور منہاج میں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبادت
 اور استعانت کے معاملہ میں اللہ کی توحید پر اور جو چیزیں اس کے
 شایان شان نہیں ہے ان سے پاکی اور اس کے ساتھ شرک
 کرنے کی حرمت پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اجماع ہے، لکن
 شاہ صاحب نے دین کی وحدت اور شرائع اور منابج کے اختلاف کی تفصیل
 کے بعد ایک اور باب رقم کیا ہے ”الحاجة المدین ینسخ الادیان“ یعنی ایک
 ایسے دین کی ضرورت جو تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، یہ باب گواہتہ اور حاصل
 ہے گزشتہ باب کا جس کی وجہ سے شاہ صاحب کے بارے میں کسی کو وہ غلط فہمی
 نہ ہوئی جو مولانا آزاد کے بارے میں ہوئی۔ کیوں کہ مولانا آزاد نے وحدت دین کی بحث
 تو تفصیل سے کی مگر اس کے دوسرے حصہ کو موضوع بحث نہیں بنایا اور غلط فہمی کھ
 دوسری وجہ وحدت ادیان کی اصطلاح کا استعمال تھا۔

قرآن اور اصلاح امت

شاہ ولی اللہ نے قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا تھا کہ جن باطل خیالات، فاسد
 اعمال اور مہلک رسوم میں مسلمان مبتلا ہوتے جا رہے ہیں ان کا ازالہ ہو اور قرآن کی روشنی
 فکر و عمل کی تاریک راہوں کو منور کر دے۔ شاہ صاحب نے اس سلسلہ میں اپنے ترجمہ
 قرآن فتح الرحمن کو بچوں، بڑوں، امراء، سیاسی، صنعت گر، عالم اور عوام سب کو پڑھنے
 کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ قرآن میں جن گمراہ قوموں کے عقیدہ و عمل پر تنقید کی گئی
 ہے ان کی خصوصیات و اذات کو متعین کر کے اپنے زمانہ کے حالات پر منطبق کیا اور
 ان سے پرہیز کرنے کی دعوت دی اور تدبیر بتائی۔ الفوز البکیر فی اصول التفسیر میں
 اس پہلو کو خاص طور سے نمایاں کیا ہے۔ شاہ صاحب جب یہود و نصاریٰ اور منافقین
 کے احوال پر گفتگو کرتے ہیں تو ان کی مثالیں معاصر مسلم معاشرہ میں دکھاتے ہیں شاہ صاحب
 لکھتے ہیں:

”قرآن مجید کی تلاوت کے وقت یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اس میں

مباحثہ ایک خاص قوم سے تھا جو گذر گئی بلکہ بمصداق حدیث نلتبعن سنن من قبلکم زمانہ نبوی میں کوئی بلا نہ تھی مگر یہ کہ اس کا نمونہ آج بھی موجود ہے۔ اس لیے مقصودِ اصلی ان مقاصد کے لیے کلیات کا بیان ہے نہ کہ ان حکایات کی خصوصیات“۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن اسی جذبہ سے سرشار ہو کر قلم بند کیا ان کے پیش نظر بھی امت مسلمہ کی اصلاح تھی۔ وہ لکھتے ہیں:

”اصلاح کے لیے پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو قرآن کے براہِ راست مطالعہ و عمل کی دعوت دی جائے لیکن یہ دعوت کچھ سو مند نہ تھی جبکہ قرآن کے فہم و مطالعہ کا سامان مفقود تھا“۔

چنانچہ مولانا ابوالکلام آزاد جن مقامات پر یہود و نصاریٰ، منافقین اور دیگر گمراہ قوموں کی سرگذشت حیات پر قلم اٹھاتے ہیں تو موجودہ مسلم معاشرہ کا بھی اہم اس ذمہ داری کے ساتھ محاسبہ کرتے ہیں۔ مثلاً سورہ التوبہ کی آیت ۱۷ میں ہے مَا كَانَتْ لِّلْمُشْرِكِينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِينَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔

(مشرکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ ایسی حالت میں کہ وہ خود اپنے شرک کا اعتراف کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے اعمال اکارت گئے اور وہ عذابِ آتش میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔) مولانا آزاد نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”قریش مکہ کو خانہ کعبہ کی مجاوری اور حاجیوں کے کاروبار کے منتظم ہونے کا بہت غور تھا اور جب ایک جماعت اعتقاد و عمل کی حقیقت سے محروم ہو جاتی ہے تو اسی طرح کے رسوم و منظر کو بہر طرح کی بزرگی و سعادت کا ذریعہ سمجھنے لگتی ہے۔ کسی زیارت گاہ کا متونی ہونا جو اثر و رسوخ رکھتا ہے وہ بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر مومن و متقی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک صالح و متقی مسلمان کو کوئی نہیں پوچھے گا لیکن ایک بد عمل مجاور یا متونی درگاہ

کی ہزاروں آدمی قدم بوسی کریں گے، ۲۵ھ
 سورہ توبہ کی دوسری آیت ہے: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا كَثِيرًا مِّنَ
 الْأَخْبَارِ وَالشُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا مِن مَّا مَلَائَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَصُدُّوا عَن
 سَبِيلِ اللَّهِ» (التوبہ: ۳۴)

مولانا آزاد نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہود و نصاریٰ کے علماء اور مشائخ
 کی گمراہی کے مظاہر بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ مثلاً حرام کو حلال اور حلال کو حرام
 بنانا، تاجائز طریقہ پر مال کھانا، فیصلوں میں رشوت لینا، مذہبی رسوم کی ادائیگی پر
 معاوضہ لینا، اللہ کی کتاب کے علم سے عوام کو محروم رکھنا، اپنے آپ کو نجات کا
 ذریعہ باور کرنا، مغفرت کے پروانے فروخت کرنا، مصنوعی تبرکات و آثار کا اعتقاد پیدا
 کرنا، شرعی حیلے بہانے تراشنا، ایصالِ ثواب کے لیے رسمیں اور رقیب مقرر کرنا اور
 دین کو پیشہ بنا لینا وغیرہ۔ آخر میں مولانا نے اس صورتِ حال کو اپنے موجودہ مسلم
 معاشرہ پر منطبق کیا ہے اور اسے شاہ ولی اللہ کے حوالہ سے مؤکد کیا ہے وہ
 لکھتے ہیں:

”قرآن نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی اس گمراہی کی طرف
 اس لیے اشارہ کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ ان کا ایمان سے محروم ہو جانا
 اور دینِ حق کا عملاً ترک کر دینا دراصل ان کے علماء کی ان گمراہیوں
 اور دنیا پرستیوں کا نتیجہ تھا۔“

لیکن آج مسلمان اور مسلمانوں کے علماء و مشائخ اپنی حالت
 پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ کیا وہ بھی ٹھیک ٹھیک اجارہ و رہبان کے
 قدم بقدم نہیں چل رہے ہیں؟ اور کیا اکل اموال بالباطل کی یہ
 تمام صورتیں کسی نہ کسی بھیس میں یہاں بھی کام نہیں کر رہی ہیں؟ حضرت
 شاہ ولی اللہ نے اب سے دو سو برس پہلے الفوز البکیر میں لکھا تھا کہ
 اگر اجارہ یہود کی حالت دیکھنی چاہتے ہو تو آج کے علماء کو دیکھ لو، اور
 اگر مسیائوں کے رہبان کا نقشہ ٹھینچنا چاہتے ہو تو آج کل کے مشائخ
 کے سامنے بیٹھ کر کھینچ لو، ۲۵ھ

سورہ الانعام میں ہے: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ سِيعًا وَيُذْنِقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ (الانعام: ۶۵)

مولانا آزاد نے آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے نزدیک یہ بھی ایک عذاب ہے کہ کوئی امت ایک طریقہ پر جمع رہنے کی جگہ مختلف گروہ بندیوں میں بٹ جائے اور ہر گروہ دوسرے گروہ کو اپنی شدت کا مزہ چکھانے لگے۔ افسوس کہ مسلمان بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں۔“

مولانا آزاد نے سورہ طہ کی آیت ۵۵: فَصَابِلُ الْفُرُوقِ الْأُولَىٰ کے تفسیری نوٹ میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس سلسلہ میں نہایت وقیع اور سبق آموز اور مسلمانوں کے موجودہ اختلافات کو دور کرنے میں معاون ہے۔

حواشی و مراجع

- ۱۔ مولانا ابوالکلام آزاد، تذکرہ، لاہور ص ۲۶۸ ۲۔ ایضاً ص ۲۱۶
- ۳۔ مولانا ابوالکلام آزاد، ترجمان القرآن، سائتیا اکیڈمی دہلی ۱۹۶۷ء ص ۵۵۳/۱
- ۴۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، فتح الرحمن، قلمی سبحان اللہ کلکشن، مولانا آزاد لائبریری، اے ایم یو، مقدمہ
- ۵۔ ترجمان القرآن ۴۷، دیاچہ ۶۔ ایضاً ۳، دیاچہ
- ۷۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، الفوز البکیر، اردو ترجمہ مکتبہ برہان دہلی، ص ۳۰
- ۸۔ ترجمان القرآن ۳۳/۱، دیاچہ ۹۔ ایضاً ص ۴۲
- ۱۰۔ الفوز البکیر ص ۶۶ ۱۱۔ ترجمان القرآن ۴۰، دیاچہ
- ۱۲۔ الفوز البکیر ص ۸۴ ۱۳۔ ترجمان القرآن ۳۶/۱، دیاچہ
- ۱۴۔ الفوز البکیر ص ۶ ۱۵۔ ایضاً ص ۵۸
- ۱۶۔ ترجمان القرآن ۳۶/۱، دیاچہ ۱۷۔ ایضاً ص ۳۹ ۱۸۔ الفوز البکیر ص ۳۲
- ۱۹۔ ایضاً ص ۸۳ ۲۰۔ ترجمان القرآن ۳۷، دیاچہ
- ۲۱۔ ترجمان القرآن ۱۶۲/۲ ۲۲۔ فتح الرحمن، مجمع ملک ہند، مدینہ منورہ، ۱۹۶۷ء ص ۳۵
- ۱۷۹

- ۲۲۳ ترجمان القرآن ۲ / ۷۸۹
 ۲۲۴ فتح الرحمن، الانعام : ۱۳۰
 ۲۲۵ ترجمان القرآن ۳ / ۳۱۰
 ۲۲۶ فتح الرحمن : بنی اسرائیل : ۸۴
 ۲۲۷ ایضاً المؤمنون : ۳۱
 ۲۲۸ ترجمان القرآن ۴ / ۸۸۸
 ۲۲۹ فتح الرحمن : المائدہ : ۲
 ۲۳۰ الفوز الکبیر ص ۳۶
 ۲۳۱ تذکرہ ص ۵۷
 ۲۳۲ ترجمان القرآن ۲ / ۵۸۷
 ۲۳۳ فتح الرحمن البقرہ : ۱۵۶
 ۲۳۴ ترجمان القرآن ۲ / ۲۰
 ۲۳۵ فتح الرحمن ، البقرہ : ۲۵۶
 ۲۳۶ ترجمان القرآن ۲ / ۲۳۲
 ۲۳۷ الفوز الکبیر ص ۲۵
 ۲۳۸ ترجمان القرآن ۳ / ۷۰۲
 ۲۳۹ فتح الرحمن الانبياء : ۹۹
 ۲۴۰ ترجمان القرآن ۴ / ۷۲
 ۲۴۱ فتح الرحمن الحج : ۶۹
 ۲۴۲ ترجمان القرآن ۴ / ۸۴۲ ایضاً ۲ / ۲۲۵
 ۲۴۳ ایضاً ص ۸۵۸ ایضاً ۱ / ۳۵۸
 ۲۴۴ ایضاً ص ۳۵۹ ایضاً ص ۳۶۷ ایضاً ۲ / ۷۸۵
 ۲۴۵ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ البانہ ، دمشق ۱۲۵۲ھ اول ص ۸۶
 ۲۴۶ الفوز الکبیر ص ۳۳ ایضاً ترجمان القرآن ۱ / ۸ دیاچہ
 ۲۴۷ ایضاً ص ۲۲۲ ایضاً ص ۸۸ ایضاً ۲ / ۷۳ ایضاً ۲ / ۶۵۲ تا ۶۶۲